



بے دخلی کا سامنا کرنے والے کرایہ داروں کو قانونی خدمات تک عالمگیر رسائی فراہم کرنے کے لیے NYC کے دفتر برائے دیوانی انصاف کے پروگرام کی بابت سالانہ عوامی سماعت کا ٹیس

2017 میں نیو یارک سٹی کونسل نے مقامی قانون 136 پاس کیا، جس کو اب NYC ایڈمنسٹریٹو کوڈ (NYC Administrative Code) کے ٹائٹل 26 کے باب 13 کا کوڈ دیا گیا ہے، جو عالمگیر رسائی (Universal Access) قانون کے نام سے بھی معروف ہے، جو بے دخلی کا سامنا کر رہے کم آمدنی والے کرایہ داروں کو ہاؤسنگ کورٹ میں قانونی خدمات تک رسائی فراہم کرنے یا نیو یارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی (New York City Housing Authority, NYCHA) کی انتظامی کارروائیوں میں کرایہ داری کے اختتام کے لیے پروگراموں کی تشکیل کے ساتھ دفتر برائے دیوانی انصاف (Office of Civil Justice, OCJ) کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ عالمگیر رسائی قانون کا تقاضا ہے کہ دیوانی انصاف کے رابطہ کار (Civil Justice Coordinator) ان پروگراموں کے بارے میں سفارشات اور تاثرات موصول کرنے کے لیے ایک سالانہ میٹنگ کا اہتمام کریں۔

سماعت کب اور کہاں پر ہے؟

جمعرات، 15 نومبر 2018
6 بجے شام تا 9 بجے رات
125 Worth Street, 2nd Floor Auditorium
New York, NY 10013

میں کس طرح شرکت کر سکتا ہوں؟


قانونی خدمات تک عالمگیر رسائی (Universal Access to Legal Services) پروگرام کی بابت کوئی بھی فرد درج ذیل کی معرفت تبصرے یا تاثرات فراہم کر سکتا ہے:



ای میل

آپ تحریری تبصرے
civiljustice@hra.nyc.gov پر ای میل کر
سکتے ہیں۔

براہ کرم اپنے ای میل کی موضوع والی سطر میں
"HEARING COMMENTS" شامل کریں۔



ڈاک

آپ تحریری تبصرے درج ذیل پتہ پر ڈاک سے بھیج
سکتے ہیں:

NYC Human Resources
Administration Office of Civil Justice
150 Greenwich Street, 31st Floor New
York, NY 10007

بملاحظہ: HEARING COMMENTS



عوامی سماعت

آپ عوامی سماعت میں بول سکتے ہیں۔ تبصرہ کرنے
کے خواہاں کسی بھی فرد کو سماعت کے آغاز میں
ہی بولنے کے لیے سائن اپ کرنا ضروری ہے۔ آپ
تین منٹ تک بول سکیں گے۔

کیا تحریری تبصرے جمع کروانے کے لیے کوئی آخری تاریخ ہے؟
آخری تاریخ 15 نومبر 2018 ہے۔

اگر مجھے سماعت میں شرکت کے لیے اعانت درکار ہو تو کیا ہوگا؟

اگر آپ کو ترجمان، بشول اشاراتی زبان کا ترجمان درکار ہو یا اگر آپ کو کسی معذوری کے مدنظر سماعت میں معقول سہولت درکار ہو تو براہ کرم ہمیں
بتائیں۔ آپ کو 8 نومبر 2018 تک ہمیں بتا دینا ضروری ہے۔
آپ ہمیں 929-221-6715 پر کال کر سکتے ہیں؛ civiljustice@hra.nyc.gov پر ای میل کر سکتے ہیں؛ یا مذکورہ بالا پتہ پر بذریعہ ڈاک ہمیں
بتا سکتے ہیں۔

یہ مقام وہیل چیئر سے قابل رسائی ہے۔

کیا سماعت کی نقل حرفی موجود ہوگی۔ سماعت کی ایک نقل حرفی سماعت کے چند ہفتے بعد، عوام کے لیے OCJ کی ویب سائٹ،
nyc.gov/civiljustice پر دستیاب ہوگی۔